

جس عورت کا ذہنی توازن درست نہ ہو، اس کی عدت کا حکم

مجیب: ابو احمد محمد انس رضا عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-877

تاریخ اجراء: 07 ذی قعدة الحرام 1443ھ / 07 جون 2022ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

شوہر کا انتقال ہوا لیکن بیوی کا ذہن ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ پاگل ہے تو وہ عدت کیسے گزارے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

وہ عورت جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یعنی پاگل ہے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا ولی عدت کی مدت میں کہیں اور اس کا نکاح نہیں کرے گا اور اس عورت پر سوگ (ترک زینت) لازم نہیں البتہ اگر دوران عدت اس کا جنون چلا جاتا ہے تو اس پر سوگ لازم ہوگا۔

در مختار میں عدت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ” (تربص یلزم المرأة) أو ولی الصغیرة (عند زوال النکاح) “ترجمہ: عدت ایسا انتظار ہے جو عورت یا صغیرہ کے ولی پر لازم ہے نکاح کے زوال کے وقت۔

اس کے تحت ردالمحتار میں ہے: ”بمعنی أنه يجب علیه أن یربصها أي يجعلها متصفة بصفة المعتدات لأن العدة صفتها لا صفة وليها، إذ لا یصح أن یقال إذا طلقت، أو مات زوجها وجب علی وليها أن یعتد وقد مر أنهم یقولون تعتدهی، والوجوب إنما هو علی الولی بأن لا یزوجها حتی تنقضي العدة أي مدة العدة تأمل، والمجنونة كالصغیرة “ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے کہ ولی پر واجب کہ وہ صغیرہ کو روکے رکھے یعنی ولی صغیرہ کو معتدہ کی صفات کے ساتھ متصف کرے کیونکہ عدت عورت کی صفت ہے نہ اس کے ولی کی صفت، اور صحیح نہیں ہے کہ یہ کیا جائے جب عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ولی پر لازم ہے کہ عدت گزارے بلکہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ عورت عدت گزارے۔ اور ولی پر وجوب کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا کہیں نکاح نہ کرے یہاں تک کہ مدت گزر جائے یعنی عدت کی مدت اور مجنونہ کا حکم صغیرہ والا ہے۔ (ردالمحتار علی در

مختار، جلد 3، صفحہ 503، دارالفکر بیروت)

سوگ کے حوالے سے در مختار میں ہے: ”(لا) حداد علی سبعة: کافرة و صغیرة، و مجنونة“ ترجمہ: سات عورتوں پر سوگ نہیں ہے: کافرہ، صغیرہ اور مجنونہ۔ (در مختار، جلد 3، صفحہ 532، دار الفکر بیروت)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net